



سوال

(258) زیورات کی زکوٰۃ کا حکم ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زیورات کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

زیورات اگر عورتوں کے ہوں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لیث، شافعی رحمۃ اللہ علیہ احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو زکوٰۃ نہیں ہے اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسماء، رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت سے مروی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں زکوٰۃ ہے اور یہ موقف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت سے مروی ہے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ثوری اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔

رہے مردوں کے زیورات تو جوان میں سے مباح ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے مثلاً تلوار کی نمائش کے لیے اور چاندی کی انگوٹھی اور جن کا استعمال حرام ہے جیسا کہ (سونا چاندی کے) برتن تو ان میں زکوٰۃ ہے لیکن جن کے استعمال میں اختلاف ہے تو ان کی زکوٰۃ میں اختلاف ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ان میں زکوٰۃ ہے البتہ ان کا استعمال جائز نہیں ہے جبکہ یہ چاندی کے ہوں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مباح کہا ہے جہاں تک گھوڑے کے زیورات کا تعلق ہے مثلاً زین لگام وغیرہ تو جمہور علماء کے نزدیک ان میں زکوٰۃ ہے جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے استعمال کو منع کیا ہے۔ ایسے ہی دوات اور سرمدانی وغیرہ ان میں جمہور کے نزدیک زکوٰۃ ہے خواہ وہ چاندی کی ہو یا سونے کی۔ (شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف



محدث فتویٰ